

## FA Part 2 Home Economics Chapter 2 Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	بماری غذا میں کتنے گذائی اجرا ہے۔	A. تین B. چار C. چھ D. نو
2	حرارت کو کون سی مقدار پانی کے درجہ حرارت کو ایک سیٹنی گریڈ تک بڑھاتی ہے۔	A. ایک کلو گرام B. چار کلو گرام C. اٹھ کلو گرام D. دس کلو گرام
3	خوراک کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز قدرتی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے۔	A. پانی B. موسم C. ماحول D. آب و برا
4	غذا کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔	A. دولت کا B. عمر کا C. عقل کا D. صفاتی کا
5	کچھ لوگ کون سی مشقت سے زیادہ زبانی کام کرتے ہیں۔	A. نفسیاتی مشقت B. زینی مشقت C. جسمانی مشقت D. کوئی نہیں۔
6	متوازن غذا سے مراد ہے۔	A. تمام اجزاء کم ہوں B. تمام اجزاء زیادہ ہوں C. تمام اجزاء مناسب مقدار میں ہوں D. کوئی نہیں۔
7	بماری تدریسی اور صحت کا دارو مدار ہے۔	A. آب و برا پر B. پانی پر C. نسلستہ پر D. متوازن غذا پر
8	جب غذائیت کی کمی حد سے بڑھ جائے تو انسان کی جو سورجtal بوجاتی ہے اسے	A. فریکل نیوٹریشن B. کیمیکل میں نیوٹریشن C. الف اور ب دونوں D. کوئی نہیں۔
9	انڈے اور اس سے بنی ہوئی غذاوں میں مکمل پروٹین کے علاوہ وثامن۔	A. اے ، فولاد اور کیشیم B. بی، سی، ڈی C. بی ، فولاد اور کیشیم D. کوئی نہیں۔
10	زمین کے اندر اگے والی چیزیں ہیں۔	A. کیلا، الو ، شکر کندی B. الو ، شکر کندی C. مٹر، پیاز D. کوئی نہیں۔